

HEADSTART PLAN

"For queries SMS "PRD" to 9898"

Save Today For Your Child's Secure Tomorrow

As a caring parent, you would always want to secure your child's future and there is really no better gift you can give to your child, than the promise of a secure future. In order to make their future prosperous, parents should start saving at an early stage as there is an undeniable sense of satisfaction from knowing that contribution to the prosperous future for their children has begun.

EFU Life—Head Start Plan helps you start a savings fund in the name of the child when he/she is young, so that the accumulated savings can be utilized for his/her future financial needs. After the age of 18, the Plan can be modified to provide various levels of life protection and flexibility, with other options to customize the benefits according to your needs. In this Plan, the premiums you have invested will be utilized to purchase units which can build a substantial capital and also provide your child with significant funds.

Planning For Your Child's Bright Future

Head Start Plan is a regular premium unit-linked savings plan aimed at providing significant accumulation of cash values for your children. You have a good opportunity to secure your child's financial future from an early age by investing in this plan. The plan provides a proper systematic structure of savings for your child so that you can achieve what you have planned for them by:

- Selecting the most attractive savings fund option for your child's future
- Saving at an early age to receive an early break even and significant returns on investments
- Having access to your savings whenever you need them
- Hedging against inflation through the Inflation Protection Benefit
- Providing you with tailor made additional benefits to suit your needs

Opportunity For Growth

The premiums of the plan will be utilized to purchase units in the fund selected by the policyholder.

You have the flexibility to select from one of the following Unit Saving Funds based on your risk appetite and investment objective at the inception of the policy.

EFU Managed Growth Fund - An investment fund with a balanced investment strategy. It aims to achieve reasonable capital growth and steady returns with investment in government securities, carefully selected blue chip equities and other fixed income securities and cash.

EFU Guaranteed Growth Fund - An investment fund providing steady returns with a guarantee that the bid price of the fund will never fall. It aims to achieve stable growth through investment in short-term debt securities.

EFU Income Growth Fund - An Investment fund providing steady returns. It aims to achieve consistent capital growth with investment in government securities and high quality corporate debt.

Inflation Protection

Inflation is a part of our economy and you want to ensure that your investments for your child are able to sustain the eroding effects of inflation over time. With inflation protection benefit you will have security and peace of mind knowing that the benefits provided by the plan will automatically update every year.

Under this option, the premium will increase every year by 5% of the previous year's premium with an appropriate increase in benefits (wherever applicable), without any medical evidence.

Fund Acceleration Premiums

This benefit acknowledges the fact that you may have surplus cash available at any point in your life. Head Start Plan is a regular premium plan but also gives you the flexibility to top-up your savings by depositing your surplus funds as lump sum premiums in the plan. These lump sum premiums, called "Fund Acceleration Premiums" (FAP) payments can be made at the commencement or at any policy anniversary. The FAP payments will increase the cash value of your plan, but will not affect the sum assured. The minimum FAP payment required is Rs. 25,000.

Death Benefit

The Plan provides life assurance protection as your child reaches the age of 18 years. The Sum Assured on the child's life can be selected at the inception of the plan when the child is young with the flexibility that it can be changed when he/she reaches the age of 18 years.

The following amounts are payable on death:

If the child was minor at last policy anniversary (aged less than 18 years), you will receive:

Total cash value of units applicable to regular premiums and FAP.

If the child was an adult at last policy anniversary (aged 18 and above), you will receive

the greater of Sum Assured or cash value of the main plan and any cash from FAP payments.

Maturity Benefit

At the end of the policy term, while the policyholder is still alive, the maturity benefit payable will be the Cash Value of the units applicable to the Basic Plan Premium plus the Cash Value of the units applicable to Fund Acceleration Premiums.

On Maturity, the child who will be a grown up adult in consultation with his parent can purchase one of the unique product offerings from the available product suite at EFU Life.

Additional Benefits

Upon reaching the age of 18 years the following riders are available, depending on the company's underwriting policy at that time. These riders can be added to enhance the life protection.

Additional Term Assurance

In many circumstances you may feel that the Basic Sum Assured would not provide sufficient financial protection in the unfortunate event of your death. This rider increases the level of life cover by providing an additional amount on death.

*Accidental Death Benefit

This rider provides additional sum assured on accidental death of the policyholder. This additional sum assured ranges from 50% to 200% of the Basic Sum Assured.

*Accidental Death and Disability Benefit

If death or disability occurs as a result of an accident, you can be covered for an additional amount up to 50% to 200% of the Basic Sum Assured.

*Accidental Death and Disability Plus Benefit

Accidental Death and Disability Benefit Plus provides you an extra layer of protection. In addition to the aforementioned accidental benefits, if you suffer an accidental injury leading to Permanent Total Disability, the total sum assured chosen under this benefit will be paid as lump sum. Permanent Total Disability in this context means an inability to engage in any occupation for which you are reasonably qualified by education, training or experience.

*Any one of the three Accidental benefits can be selected at a time.

Family Income Benefit

In addition to the lump sum payable on death, you may wish to require a regular monthly income to maintain a decent lifestyle.

This additional benefit will provide a monthly income of either 1% or 2% of the Basic Sum Assured payable for the remaining term of the Plan, subject to a maximum age of 70 years.

Life Care Enhanced Benefit

EFU Life has pioneered critical illness cover in Pakistan which provides a cash sum upon the diagnosis or occurrence of the following 20 critical illnesses:

- Cancer
- Major Organ Transplant
- Heart Attack
- Paralysis
- Blindness
- Loss of Limbs
- Stroke
- Benign Brain Tumour
- Multiple Sclerosis
- Deafness
- Coma
- Major Head Trauma
- Loss of Speech
- Kidney Failure
- Coronary Artery/Bypass Surgery
- Heart valve surgery
- Surgery to aorta
- Serious coronary artery disease
- End stage lung disease
- Angioplasty and other invasive treatments for coronary artery disease

The cash sum provided by Life Care Enhanced Benefit can be used as you wish e.g., to pay for the specialised care or treatment, investment for a regular income, or to pay off a house or business loan.

Under Life Care Enhanced Benefit, the sum assured payable on diagnosis is an additional payment. This means that your basic policy continues even if you have been paid the cash sum under this benefit. This benefit is subject to a maximum age at entry of 50 years and for a maximum cover of Rs. 1.5 million

Hospital Care Benefits

On being hospitalized due to an accident or sickness which can create a serious financial burden, the Hospital Care Benefit provides a fixed daily cash amount which will be paid directly to you (even if the medical expenses are covered by an employer or anyone else.) This benefit is payable from the first day of hospitalization and continues for up to 365 days for each separate confinement. If the confinement is due to any of the conditions covered in our LifeCare Benefit, the cash income payable will be doubled for the first 30 days of confinement at no extra cost.

For a nominal extra premium, the standard Hospital Care Benefit can be extended to Hospital Care Plus. This provides the additional benefit of cash income during the recovery period following discharge from hospital, for the same number of days as that paid for the hospital confinement. The amount payable for the recovery period is 50% of that paid during hospitalization.

Medical Recovery Benefit

This innovative benefit is the first of its kind in Pakistan. It provides a lump sum payment on diagnosis of any of the medical conditions as defined in schedule of benefits.

Waiver of Premium

If you are unable to follow any occupation for at least six months due to sickness or accident, the present premium to the plan will be paid in full by EFU Life on the next due date. The benefit will continue until you return to work or your 60th birthday, whichever comes earlier. This means that whether or not you continue to enjoy good health, your financial planning will succeed.

Kindly note that these above mentioned riders are not available for ages up to 17 years. However, after the child reaches age of 18 years, any of the aforementioned riders can be selected as per the terms and conditions

Important Details

Eligibility

The plan is for the child's life and the minimum age at entry is 6 months and the maximum age at entry is 17 years.

Term

The term of the Plan can be for any period between 10 and 25 years. The Plan provides the flexibility to extend the term when the child reaches the age of 18 years.

Minimum Basic Premium

The minimum Annual Basic Plan Premium is Rs. 25,000 per annum.

Sum Assured

Since this is a savings plan for minors, therefore Sum Assured is applicable after the age of 18 years. The maximum Sum Assured is 1 million and it is determined as the Basic Annual Premium times the "Protection Multiple". The Protection Multiple limits are 5 to 75 for all ages at entry. Further to this, the flexibility to revise sum assured will be applicable after the age of 18 years.

Unit Allocation

The proportion of the Basic Plan Premium allocated to investment is as follow:

Year	% Allocation
1	25%-35% (depending on the term)
2	80%
3	90%
4-5	100%
6-10	103%
11 onwards	105%

100% of Fund Acceleration Premium payment is allocated to purchase units.

Access To Your Savings

Nobody can predict the future. If your circumstances change and you have a need for cash, your plan can be encashed for the full bid value of units after the second annual premium has been paid. Please remember that the value in the first few years is likely to be low since the plan is designed for long-term capital gains.

Alternatively, you may just want a small proportion of the capital you have accumulated. The plan gives you the facility to make partial withdrawals at any time while continuing to make premiums and keeping the plan in force. This facility is subject to at least Rs. 20,000 remaining as cash value after such withdrawals.

Automatic Non Forfeiture Option

If premium payments are stopped due to any reason after paying two full years' premiums, the Company will keep the basic policy in force for a period of one year from the date of first unpaid premium. During this one year period the Company will cancel enough units to pay for the cost of maintaining the cover (if any) and for administration. At the end of this period, if the policy has still cash value, it will be converted to "Paid-up" policy; in such a case, no further premiums would be payable and the amount payable on death or maturity will be equal to the Cash Value of the policy. At each policy anniversary, the Company will cancel enough units to pay for the administration cost for maintaining the policy.

Charges

The following charges apply to the plan:

Investment Management Charge: 0.125% of the fund value per month.
Bid offer spread: 5% of the net allocable premium.
Administration Charge: Rs.660 per annum.

Mortality charges

An age based mortality charge applies for the life insurance risk each year which is dependent on the sum at risk. No mortality charges apply where the cash values exceed the sum assured or the life assured is less than 18 years.

Disclaimer

1. This brochure gives a general outline of 'EFU-Head Start Plan'. The contract will be governed by the detailed conditions set out in the policy.
2. A description of how the contract works, is given in the policy Provisions and Conditions.
3. The growth in fund value will depend on the actual fund performance. You can enhance your cash value by payment of Fund Acceleration Premiums.
4. Please note that Unit Linked Life Insurance plans are subject to investment risk and the Investment risk in the selected fund is borne by the policyholder.
5. Kindly contact our Head Office or Sales Consultant for a personalized illustration of benefits.

EFU LIFE ASSURANCE LTD.

EFU Life House, Plot No. 112, 8th East Street, Phase I, DHA, Karachi, Pakistan
Fax: (021) 3453-7519 Email: csd@efulife.com

EFU LIFE

ہیڈ سٹارٹ پلان

”سوالات کے لئے پی آر ڈی 9898 پر ایس ایم ایس کریں“

اپنے بچوں کے مستقبل کے تحفّظ کے لئے آج بچایئے

ذمہ دار والدین ہونے کی حیثیت سے آپ ہمیشہ چاہیں گے کہ آپ کے بچوں کا مستقبل محفوظ ہو اور ایک محفوظ مستقبل کے وعدے سے بڑھ کر کوئی اور بہتر تحفہ نہیں ہوسکتا جو آپ اپنی اولاد کو دے سکیں۔ ان کے مستقبل کو خوشحال بنانے کے لئے، والدن کو چاہیے کہ ابتدائی مرحلے سے ہی بچت کرنا شروع کردیں کیونکہ یہ معلوم ہونا اطمینان کا ایک ناقابل تردید احساس ہے کہ اپنی اولاد کے خوش حال مستقبل کے لئے ان کا حصّہ شروع ہوچکا ہے۔

ای ایف یو لائف ہیڈ سٹارٹ پلان آپکو اپنے بچے کے نام سے ایک سیونگ فنڈ کا آغاز کرنے میں مدد کرتا ہے جب وہ کم عمر ہو، تاکہ جمع شدہ سیونگز اسکی مستقبل کی مالی ضروریات کے لئے استعمال میں لائی جاسکیں، 18 سال کی عمر کے بعد، اس پلان میں، آپ کی ضرورت کے مطابق فوائد کو ڈھالنے کیلئے کئی اختیارات کے ساتھ، زندگی کے تحفّظ کے مختلف درجہ جات مہیّا کرنے کے لئے ردّ و بدل کیا جاسکتا ہے، اس پلان میں آپ کے ادا کردہ پریمیئم یونٹس خریدنے کے لئے استعمال کئے جائیں گے جو ایک مناسب سرمائے میں ڈھل سکتے ہیں اور آپ کی اولاد کو نمایاں رقم بھی مہیّا کرسکتے ہیں۔

اپنے بچّے کے روشن مستقبل کے لئے منصوبہ بندی

ہیڈ سٹارٹ پلان یونٹ سے منسلک ایک باقاعدہ پریمیئم کا پلان ہے جس کا مقصد آپ کے بچوں کے لئے نقد اقدار کا ایک نمایاں مجموعہ فراہم کرنا ہے۔ اس پلان میں سرمایہ کاری کرکے آپ کو ابتدائی عمر سے ہی اپنے بچے کے مالی مستقبل کو تحفّظ فراہم کرنے کا ایک اچھا موقع حاصل ہے۔ یہ پلان آپ کے بچے کے لئے بچتوں کا ایک منظّم طریقہ مہیّا کرتا ہے تاکہ آپ اپنی منصوبہ بندی کے مطابق جو چاہیں وہ ان کے لئے حاصل کرسکیں:

- اپنے بچے کے مستقبل کے لئے سب سے زیادہ پرکشش بچت فنڈ کا انتخاب کرکے؛
- سرمایہ کاری پر ایک جلد مساوی رقم اور نمایاں منافع وصول کرنے کے لئے ابتدائی عمر میں بچت کا آغاز کرکے؛
- اپنی ضرورت کے مطابق بچت تک رسائی حاصل کرکے؛
- افراطِ زر کے تحفّظ کے فائدے کے ذریعے افراطِ زر پر قابو حاصل کرکے؛
- آپ کی ضرورت کے مطابق وضع کردہ اضافی فوائد فراہم کرکے۔

سرمائے کی نشوونما کیلئے مواقع:

پلان میں کی جانے والی ادائیگیوں کو، پالیسی ہولڈر کے منتخب کردہ فنڈ میں یونٹس کی خریداری کیلئے استعمال میں لایا جائے گا۔ پالیسی کے آغاز پر آپ کو درج ذیل یونٹ سیونگز فنڈز سے اپنے خطرے کی حد اور سرمائے کے مقصد کی بنیاد پر کسی ایک کا انتخاب کرنے کی سہولت حاصل ہے:

ای ایف یو مینیجڈ گروتھ فنڈ ۔ متوازن سرمایہ کاری کی حکمتِ عملی کے ساتھ سرمایہ کاری کا ایک فنڈ ہے۔اس کا ہدف حکومتی مالیاتی اداروں میں محتاط طریقے سے منتخب کردہ بلو چپ سیکیورٹیز میں اور مختلف فکسڈ انکم سیکیورٹیز اور نقد میں سرمایہ کاری کے ذریعے سرمائے میں مناسب فروغ اور مستحکم آمدنی کا حصول ہے۔

ای ایف یو گارنٹیڈ گروتھ فنڈ ۔ مستحکم آمدنی فراہم کرنے والا سرمایہ کاری فنڈ جس میں یہ ضمانت دی جاتی ہے کہ فنڈ کی بولی قیمت (بِڈ پرائس) کبھی ایک مخصوص فیصد سے نیچے نہیں آئے گی۔ اسکا ہدف قلیل المیعاد قرضہ لینے والے مالیاتی اداروں میں سرمایہ کاری کے ذریعے سرمایہ کی مستحکم نشوونما ہے۔

انکم گروتھ فنڈ۔ ایک سرمایہ کاری فنڈ جس کا مقصد سیکیوریٹیز میں سرمایہ کاری کر کے مستحکم بڑھوتری حاصل کرنا ہے۔اس کا ہدف حکومتی مالیاتی اداروں اور قرضہ دینے والی اعلیٰ معیاری مالیاتی اداروں میں سرمایہ کاری کے ذریعے سرمایہ کی مستحکم نشونما ہے۔

افراطِ زر سے تحفّظ

افراطِ زر ہماری معیشت کا ایک حصّہ ہے اور آپ اس بات کو یقینی بنانا چاہیں گے کہ اپنی اولاد کیلئے بچت کئے گئے سرمائے روز بروز افراطِ زر سے گرتی ہوئی حالت کو برداشت کرنے کے قابل ہوں۔اس پلان میں شامل افراطِ زر سے تحفظ کا فائدہ آپ کو یہ تحفظ اور ذہنی سکون پہنچاتا ہے کہ آپ کی صحت سے قطعِ نظر، آپ کے پلان میں حاصل فوائد، ہر سال خود بخود اپ ڈیٹ ہو جائیں گے۔

اس اختیار کے تحت، آپ کا پریمئم بغیر کسی طبّی شہادت کے، پہلے سال کے پریمئم کے پانچ فیصد کے حساب سے، فوائد میں مناسب اضافے کے ساتھ ہر سال بڑھے گا۔

اضافی اختیاری پریمیم (فنڈ ایکسلریشن پریمیم):

یہ سہولت اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ آپ کے پاس زندگی کے کسی موڑ پر ایک اضافی رقم موجود ہوسکتی ہے۔ یہ ایک باقاعدہ پریمیم پلان ہے لیکن اسکے ساتھ ساتھ یہ آپکو پلان میں اپنی اضافی رقوم کو یکمشت جمع کرا کر آپ کی بچت کو فروغ دینے کی لچک اور موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ یکمشت اضافی رقوم جن کو فنڈ ایکسلریشن پریمیم کا نام دیا گیا ہے جو پالیسی کے آغاز پر یا پالیسی کے دوران کسی بھی وقت کی جاسکتی ہیں۔فنڈ ایکسلریشن پریمیم کی ادائیگیاں آپ کے پلان کی نقد مالیت کو بڑھائیں گی مگر انکا اثر پلان کے زیرِ بیمہ پر نہیں پڑے گا۔کم از کم فنڈ ایکسلریشن پریمیم کی حد 25,000 روپے ہے۔

وفات کی صورت میں فائدہ (ڈیتھ بینیفٹ)

جیسے ہی آپ کا بچہ 18 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، یہ پلان اس کو بیمہ زندگی کا تحفظ فراہم کرتا ہے، بچے کے لئے سم اشورڈ پلان کے آغاز پر ہی منتخب کیا جا سکتا ہے جب وہ کم عمر ہو، اور جب وہ 18 سال کو پہنچے اس کو با آسانی بدلا جا سکتا ہے۔

وفات کی صورت میں درج ذیل رقوم قابل ادائیگی ہوتی ہیں:

اگر پالیسی کی آخری سالگرہ پر بچہ چھوٹا تھا (یعنی 18 سال سے کم)، تو آپ کو حاصل ہونگے باقاعدہ طور پر ادا کئے گئے پریمیئمز پر لاگو یونٹس کی کل کیش ویلیوز، اور فنڈ اسراع پریمیئمز کی ادائیگیاں۔

اگر پالیسی کی آخری سالگرہ پر بچہ بالغ تھا (یعنی 18 سال یا اس سے زائد)، تو انتقال کے وقت پلان کا سم اشورڈ یا پلان کی کیش ویلیوز، جو بھی زیادہ ہو، اور فنڈ اسراع پریمیئمز کی کیش ویلیوز، اگر ہو۔

پلان کی مدّت کے اختتام پر فائدہ (میچورٹی بینیفٹ)

پلان کی مدّت کے اختتام پر، جب پالیسی ہولڈر حیات ہو، تو اختتامی فائدہ بنیادی پلان کے پریمیئمز پر لاگو یونٹوں کی نقد قدر کے ساتھ فنڈ اسراع پریمیئمز پر لاگو یونٹوں کی نقد قدر قابل ادائیگی ہے۔

پالیسی کے اختتام پر جب بچہ جوان ہو گیا ہے تو اپنے والدین سے مشورہ کر کے، ای ایف یو لائف کی پیش کی گئی منفرد پروڈکٹس میں سے کسی ایک کا انتخاب کر کے اسے خرید سکتا ہے۔

اضافی فوائد:

18 سال کی عمر پر اور بھی بہت سے اضافی فوائد آپ کو حاصل ہو سکتے ہیں جو کہ اس وقت کی کمپنی کی انڈر رائٹنگ پالیسی پر منحصر ہو گا۔ یہ رائڈر آپ کی پالیسی کے تحفظ کے درجے کو بڑھائیں گے۔

ایڈشنل ٹرم اشورنس:

البتہ زندگی کے چند حالات میں آپکو یہ محسوس ہو کہ یہ ضمانتی زرِ بیمہ ناگہانی وفات کی صورت میں مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے کیلئے کم ہو سکتی ہے۔ ایڈشنل ٹرم اشورنس آپ کے تحفظ کے درجے کو مزید بڑھائے گا جس کے تحت آپکو اضافی رقم حاصل ہو سکتی ہے۔

* ایکسیڈینٹل ڈیتھ اینڈ ڈسیبلیٹی بینیفٹس:

اگر موت یا معذوری کسی حادثے کے باعث ہوتی ہے تو ایکسیڈینٹل ڈیتھ اینڈ ڈسیبلیٹی بینیفٹ کے تحت آپ کو بنیادی پلان کے زرِ بیمہ کا 50 سے 200 فیصد اضافی رقم کا تحفظ حاصل ہو سکتا ہے۔

* ایکسیڈینٹل ڈیتھ بینیفٹ:

حادثاتی موت کی صورت میں، بنیادی پلان کے زرِ بیمہ کے ساتھ ایک اضافی زرِ بیمہ دیا جاتا ہے۔ اگر کسی حادثے کے باعث موت واقع ہو جاتی ہے تو ایکسیڈینٹل ڈیتھ بینیفٹ کے تحت بنیادی پلان کے زرِ بیمہ کا 50 سے 200 فیصد تک ادا کیا جائے گا۔

***ایکسیڈینٹل ڈیتھ اینڈ ڈسیبلیٹی بینیفٹ پلس:**

ایکسیڈینٹل ڈیتھ اینڈ ڈسیبلیٹی بینیفٹ پلس آپ کو تحفظ کی ایک اضافی سطح مہیّا کرتا ہے۔ درج بالا ایکسیڈینٹل فوائد کے علاوہ اگر آپ کسی ایسی حادثاتی چوٹ یا ضرب کا شکار ہو جاتے ہیں جو ایک مستقل مکمل معذوری کا سبب بن جائے تو آپ کو چھ ماہ بعد فوائد کے تحت منتخب کردہ کُل مجموعی بیمہ شدہ رقم نقد کی صورت میں ادا کر دی جائیگی۔ اس حوالے سے مستقل مکمل معذوری کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ایسا کام یا پیشہ جس کے لئے آپ تعلیم، تدریب اور تجربے کے لحاظ سے اہل ہوں، اس کو جاری نہ رکھ سکیں۔

****ان میں سے کوئی ایک ایکسیڈینٹل رائیڈر منتخب کیا جا سکتا ہے۔**

فیملی انکم بینیفٹ:

وفات کی صورت میں یکمشت قابل ادائیگی رقم کے علاوہ، آپ کے زیرِ سرپرستی اہل خانہ کو ایک طرزِ زندگی برقرار رکھنے کیلئے ایک مستقل ماہانہ آمدن کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ اضافی فائدہ، پلان کی بقایا مدّت کیلئے، قابل ادا بنیادی بیمہ شدہ رقم کا 1 یا 2 فیصد ماہانہ آمدن فراہم کرے گا، اس شرط کے ساتھ اِس بینیفٹ کی حد سے حد عمر 70 سال تک ہے۔

لائف کیئر اینہانسڈ بینیفٹ:

ای ایف یو لائف نے پاکستان میں پیچیدہ بیماری کی صورت میں تحفظ پہنچانے کی ایک مثال قائم کی ہے جس میں درج ذیل 20 بیماریوں کی تشخیص یا وقوع پذیر ہونے کی صورت میں ایک نقد رقم مہیاّ کی جاتی ہے:

- سرطان
- دورۂ قلب
- بصارت سے محروم ہو جانا
- فالج
- ملٹیپل اسکلیروسز
- کوما
- بولنے کی صلاحیت سے محروم ہو جانا
- گردوں کا ناکارہ ہونا
- اسٹروک
- دماغی رسولی
- ہاتھ یا پاؤں کا ضائع ہو جانا
- سر پر ضرب شدید
- سماعت سے محروم ہو جانا
- بائی پاس سرجری برائے عارضۂ شریان قلب
- تبدیلی عارضۂ رئیسہ
- دل کے والو کی سرجری
- ایورٹہ کی سرجری
- شدید نوعیت کی شریانِ قلب کی بیماری
- شدید نوعیت کی پھیپھڑوں کی بیماری
- انجیو پلاسٹی اور دل کی شریان کی سرجری کے دیگر علاج

لائف کیئر اینہانسڈ بینیفٹ کے تحت، قابل ادائیگی بیمہ شدہ مجموعی رقم آپ اپنی خواہش کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں مثلاً خصوصی نگہداشت یا علاج کے لئے، ایک مستقل آمدنی کی فراہمی کیلئے، گھر یا کاروبار کا قرض ادا کرنے کیلئے۔

لائف کیئر اینہانسڈ بینیفٹ کے تحت تشخیص پر ایک اضافی رقم ادا کی جائیگی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس فائدے کے تحت اگر آپ کو نقد ادائیگی بھی کر دی گئی ہے، آپکی بنیادی پالیسی جاری رہتی ہے۔

یہ بینیفٹ اندراج کے وقت زیادہ سے زیادہ 50 سال کی عمر تک مشروط ہے جبکہ کوریج کی زیادہ سے زیادہ حد 15 لاکھ روپے ہے۔

ہاسپٹل کیئر بینیفٹ:

کسی بھی بیماری یا حادثے کے باعث ہسپتال میں داخل ہونا سنگین مالی بوجھ کا حامل ہو سکتا ہے، ہاسپٹل کیئر بینیفٹ آپ کو یومیہ ایک مقررہ نقد رقم مہیا کرتا ہے جو آپ کو براہ راست ادا کی جائیگی (خواہ آپ کے طبّی اخراجات کے لئے آپ کے آجر یا کسی اور کی طرف سے تحفظ حاصل ہو)۔ یہ فائدہ ہسپتال میں داخلے کے پہلے دن سے شروع ہوتا ہے اور ہسپتال میں ہر جُدا قیام کے لئے 365 دن تک جاری رہتا ہے۔ اگر یہ قیام لائف کیئر بینیفٹ پلس میں دی گئی شرائط میں سے کسی ایک پیچیدہ بیماری کی وجہ سے ہے تو قابل ادائیگی نقد رقم بغیر کسی مزید خرچ کے پہلے 30 دنوں کیلئے دگنی کر دی جائیگی۔

ایک معمولی اضافی ادائیگی پریمیم کے ذریعے منظور کردہ ہاسپٹل کیئر بینیفٹ کو ہاسپٹل کیئر بینیفٹ پلس میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس فائدے سے ہسپتال سے فارغ ہونے کے بعد، اتنے ہی دن کیلئے جتنے دن ہسپتال میں قیام کی ادائیگی کی گئی، اتنے ہی دن بحالی صحت کے دوران نقد آمدنی کا اضافی فائدہ میسّر ہوتا ہے۔ صحت یابی کیلئے ادا کی جانے والی رقم ہسپتال میں قیام کے دوران کی جانے والی ادائیگی کا 50 فیصد ہوگی۔

میڈیکل ریکوری بینیفٹ:

یہ بینیفٹ پاکستان میں اپنی نوعیت کا واحد ہے۔ یہ مخصوص طبّی بیماریوں میں سے کسی ایک کی تشخیص پر یکمشت ادائیگی فراہم کرتا ہے جو کہ شیڈول آف بینیفٹ میں دی گئی ہیں۔

ویور آف پریمیم:

اگر آپ کسی بھی بیماری یا حادثے کے باعث کم از کم چھ مہینے تک کوئی پیشہ اختیار نہ کر سکتے ہوں تو منصوبے میں اگلی واجب الوصول تاریخ سے موجودہ پریمیئم مکمل طور پر ای ایف یو لائف کی طرف سے ادا کیا جائے گا۔ یہ فائدہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ آپ کام کرنے کے قابل نہ ہو جائیں یا 60 سال کے ہو جائیں۔ ان دو میں جو حالت بھی پہلے عمل میں آئے۔ اسکا مطلب ہے کہ چاہے آپ کی صحت اچھی رہتی ہے یا نہیں، آپ کی مالیاتی منصوبہ بندی جاری رہے گی۔

برائے مہربانی یاد رکھیئے کہ درج بالا فوائد 17 سال کی عمر تک دستیاب نہیں ہیں۔ البتہ بچہ 18 سال کی عمر تک پہنچنے پر درج بالا فوائد شرائط وضوابط کے تحت منتخب کر سکتا ہے۔

ضروری تفصیلات

اہلیت:

یہ پلان بچے کی زندگی کے تحفظ کیلئے بیمہ مہیا کرتا ہے اور اس میں شمولیت کے لئے کم از کم عمر 6 ماہ اور زیادہ سے زیادہ 17 سال ہے۔

مدّت:

پلان کی مدّت 10 سے 25 سال کے درمیان کسی بھی وقت کیلئے ہوسکتی ہے، یہ پلان اسکی مدّت کو بڑھانے کی سہولت بھی فراہم کرتا ہے جب بچہ 18 سال کی عمر کو پہنچ جائے۔

کم از کم پریمیم:

بنیادی پلان کم از کم پریمیئم 25,000 روپے سالانہ ہے۔

سم اشورڈ

چونکہ یہ نابالغان کے لئے ایک بچت کا پلان ہے چنانچہ سم اشورڈ 18 سال کی عمر کے بعد قابل اطلاق ہے۔ زیادہ سے زیادہ سم اشورڈ 1 ملین ہے اور اسکا تعین سالانہ پریمیم کو پروٹیکشن ملٹپل سے ضرب دے کر کیا جاتا ہے۔ تحفظ مضروب کی حدود اندراج کے وقت تمام عمروں کے لئے 5 سے 75 تک ہیں۔ اس کے علاوہ سم اشورڈ میں ترمیم کی لچک کا 18 سال کی عمر کے بعد اطلاق ہوگا۔

یونٹ کی تقسیم

سرمائے کو مختص کئے جانے والے پلان کے بنیادی پریمیئم کا تناسب درج ذیل ہے:

سال	مقرّر کردہ فی صد تناسب
1	25 سے 35 فیصد (پلان کی مدّت کے اعتبار سے)
2	80 فیصد
3	90 فیصد
4 سے 5 سال	100 فیصد
6 سے 10 سال	103 فیصد
11 یا اس سے زائد	105 فیصد

یونٹس کی تخصیص کیلئے (FAP) فنڈ ایکسلریشن پریمیئم یونٹ ایلوکیشن کا تناسب 100 فیصد ہوگا۔

بچت تک رسائی

مستقبل کے بارے میں کوئی بھی پیشن گوئی نہیں کرسکتا۔ اگر آپ کے مالی حالات تبدیل ہوں اور آپکو نقد رقم کی ضرورت پڑ جائے تو آپ پلان کے دوسرے سالانہ پریمیم کی ادائیگی کے بعد اپنے پلان کی نقد مالیت کو بڈ پرائس (قیمت فروخت) پر رقم کی شکل میں حاصل کر سکتے ہیں۔ برائے مہربانی یہ یاد رکھئے کہ چونکہ پلان طویل المیعاد سرمائے کے فوائد کیلئے تشکیل دیا گیا ہے لہٰذا ابتدائی سالوں میں اسکی قدر کم ہونے کا امکان ہے۔

بصورت دیگر یہ بھی ممکن ہے کہ آپ اپنے پلان میں موجود سرمائے کا ایک مختصر حصہ لینا چاہتے ہوں۔ یہ پلان آپ کو کسی بھی وقت نقد مالیت کی جزوی واپسی کی سہولت فراہم کرتا ہے اور اسکے ساتھ ساتھ پلان کو قابل عمل رکھنے کیلئے پریمیم کی ادائیگی کو بھی جاری رکھا جاتا ہے، بشرطیکہ جزوی دستبرداری کے بعد پلان میں کم از کم 20,000 روپے نقد قدر کے طور پر موجود رہیں۔

آٹومیٹک نان فارفیچر آپشن:

اگر دو سال تک پورے پریمیم ادا کر دیئے گئے ہوں اور پھر کسی وجہ سے انکی ادائیگی رک جائے تو کمپنی غیر ادا شدہ پہلے پریمیم کی تاریخ سے ایک سال کے عرصے کیلئے بنیادی پالیسی کو قائم رکھے گی۔ اس ایک سال کے دوران کمپنی انتظامی اور تحفظ کے اخراجات کی ادائیگی کے لئے کچھ یونٹس منہا کر دے گی۔ اس عرصے کے اختتام پر اگر پالیسی کی نقد مالیت موجود ہو تو وہ ''پیڈ اپ'' میں تبدیل کر دی جائیگی۔ اس صورت میں مزید کوئی پریمیم قابل ادا نہیں ہونگے اور وفات پر یا پالیسی کے اختتام پر قابل ادائیگی رقم پالیسی کی نقد مالیت کے برابر ہوگی۔ ہر پالیسی سال کے اختتام پر کمپنی پالیسی کو جاری رکھنے کے انتظامی خرچ کی ادائیگی کے لئے کچھ یونٹس منہا کر دے گی۔

اخراجات:

پلان پر درج ذیل اخراجات کا اطلاق ہوتا ہے:

انویسٹمنٹ مینجمنٹ چارجز:	ہر ماہ فنڈ کی قدر کا 0.125% (سالانہ منہا کیا جائیگا)
بڈ آفر اسپریڈ:	بنیادی پریمیم کا 5 فیصد
ایڈمنسٹریشن چارجز:	660 روپے سالانہ

مورٹیلٹی چارجز:

ہر سال بیمہ زندگی میں خطرے کے اندیشے کو مدّ نظر رکھتے ہوئے عمر کی بنیاد پر شرح اموات کے اعتبار سے اخراجات کا اطلاق ہوتا ہے اور یہ سم ایٹ رسک پر منحصر ہے۔ جن سالوں میں کیش ویلیو زسم اشورڈ سے بڑھ جاتی ہے یا بیمہ دار کی عمر 18 سال سے کم ہوتی ہے، ان اخراجات کا اطلاق نہیں ہوتا۔

استثنٰیات

۱۔ یہ کتابچہ ''ہیڈ سٹارٹ پلان'' کا ایک عمومی جائزہ پیش کرتا ہے۔ معاہدے پر تفصیلی شرائط کے مطابق عمل ہوگا جو پالیسی کے قواعد وضوابط میں درج ہیں۔
۲۔ معاہدہ کس طور کام کرتا ہے اس کی تفصیل پالیسی کے قواعد وضوابط میں درج ہے۔
۳۔ فنڈ قدر کی نشو و نما فنڈ کی اصل کارکردگی پر مبنی ہوگی، آپ فنڈ ایکسلریشن پریمیئم کی ادائیگی کے ذریعے فنڈ کی نقد قدر بڑھا سکتے ہیں۔
۴۔ براہ مہربانی نوٹ فرمائیے کہ یونٹ سے منسلک بیمہ زندگی کے پلان نقصان کے اندیشے سے مشروط ہوتے ہیں اور منتخب شدہ فنڈ میں نقصان کی صورت میں پالیسی ہولڈر ذمہ دار ہوگا۔
۵۔ فوائد کی ذاتی تشریح کے لئے ہمارے ہیڈ آفس یا سیلز کنسلٹنٹ سے رابطہ کیجئے۔

ای ایف یو لائف ایشورنس لمیٹڈ

ای ایف یو ہاؤس، پلاٹ نمبر 112، 8th اسٹریٹ، فیز ون، ڈی ایچ اے، کراچی، پاکستان۔
فیکس: 3453-7519 (021) ای میل: csd@efulife.com